



Council tenants' guide to keeping dogs

Getting permission to keep a dog

It's a good idea to ask your local housing team for advice on whether the dog you have in mind is suitable.

If you'd like to have more than two dogs, you'll need our written permission. Send a letter to your local housing team. Make sure you tell us how many dogs you'd like, and what kind they are.

We'll confirm in writing, as quickly as we can, whether your plans are okay. If we're not able to say yes, we'll explain why.



Here are some general points to bear in mind

- Your dog must not scare your neighbours.
- You must take your dog for regular walks.
- Your dog must not bark loudly or excessively.
- You must prevent your dog making a mess in communal areas.
- Your home must be suitable for the type of dog you want, for example, it would be cruel to keep a large dog in a small flat.

See Section 10 of your Conditions of Tenancy for more detailed information.

How to stop your dog barking

Often you are the last person to know if your dog is barking when you're not at home. It is worth asking your neighbours whether your dog is causing a nuisance to them. Here are some useful tips to prevent your dog barking while you are out.

- Don't leave them alone for too long, it makes them very distressed.
- Try not to make a fuss of them just before you leave.
- Don't leave your dog where it can see outside.
- Keep a radio on low.
- Put any run or dog kennel away from boundary fences.
- Get your dog trained, that way they will be able to tell when it's okay to welcome someone into your home.
- If your dog still barks too much take them to the vet – they may be barking because they are ill.



This is important. If you do not understand this document then please ask a friend or relative, who speaks English, to contact your local neighbourhood office or housing team on your behalf. We will then arrange for an interpreter to meet with you.

هذه الرسالة مهمة، فإن لم تفهمها نرجو أن تطلب من أحد أصدقائك أو أقربانك ممن يتكلمون الإنجليزية أن يتصل بمكتب الحي "نيبرهود أوفوس" المحلي أو فريق الإسكان نيابة عنك. بعد ذلك سنرتب للقاء بك مع وجود مترجم فوري.

ARABIC

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এই দলিলটি বুঝতে না পারলে দয়া করে ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন এরূপ আপনার একজন বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়কে আপনার পক্ষ হয়ে আপনার স্থানীয় সেইখানহাউ অফিস বা হাউজিং টিম এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলুন। এরপর আমরা আপনার সঙ্গে সাফাফ করাব ব্যবস্থা করব এবং এতে সহায়তার জন্য একজন ইন্টারপ্রিটার রাখা হবে।

BENGALI

此事極為重要，如果你看不懂這份文件，請找一位會講英語的親戚或朋友代你接觸當地的鄰舍辦事處或房屋服務隊。然後我們會安排傳譯員一起見你。

CHINESE

این اطلاعات بسیار مهم است. اگر محتوی این مدرک را نمی فهمید، لطفاً از یک دوست یا خویشاوندان دان که به زبان انگلیسی صحبت کرده میتواند خواهش کنید که از طرف شما با نیبرهود آفس یا هوزنگ تیم محل شما تماس بگیرد. بعداً برای شما مترجم فراهم می کنیم که باشما ملاقات کند.

FARSI

Message important. Si vous ne comprenez pas ce document, demandez à un ami ou à un membre de votre famille qui parle anglais, de prendre contact en votre nom avec votre bureau de voisinage ou avec l'équipe du logement. Nous prendrons alors les dispositions nécessaires pour qu'un interprète soit présent.

FRENCH

نہم دہقہ نووسینہ گرننگہ. ننگہر نئم نووسینہ تیننگہشتیت تکایہ نئم کاتہ داوا! بکہ لہ برادر نیک یان خز مٹک، کہ بہ زمائی نینگلیزی دہوئی، پویوہندی بکات بہ نووسینگہی. ہاوسنٹی "نمیسر ہود توفیسو" نلوچمکات یان بہ تیمی خانووہمرہ لہ جیاتی تو. نئم کتہ نیمہ ہلاستین بہ ریکختستی چاوینیکومتیک لہمکلت وہ بہ نامادیوونی وەرگیزی زمان.

KURDISH

Ważne! Jeżeli nie rozumiesz treści tego dokumentu, zwróć się o pomoc do przyjaciela lub krewnego, który mówi po angielsku, aby skontaktował się w Twoim imieniu z lokalnym Biurem Środowiskowym (Neighbourhood Office) lub wydziałem do spraw mieszkaniowych (Housing Team). Załatwimy wtedy dla Ciebie tłumacza.

POLISH

ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਔਫਿਸ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੱਭਾਸ਼ੀਏ ਚਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।

PUNJABI

داویر مهم معلومات دی. کہ تاسی به دی سند نه پوهیری نومهربانی و کوری دخیل یوملگری باخیوان نه چه به انگریزی ژبه خبری کولای شی غوشتنه و کوری چه سناسی له خواستاسی دسیمی نیبرهود آفس یا هوزنگ تیم سره به تماس کی شی. بیا به مونر ترجمان برابر کرو چه سناسی سره کتنه و کوری.

PUSHTO

Hadii aadan fahmin waxa kuqoran boog yarahan (warqadan) fadlan waydiiso qof saaxiibkaa ama qaraabadaada ah oo kuhadla afka ingiriisiga inuu kuu waco xafiiska dariska ee kuu dhaw (neighbourhood office) ama kooxda guryaha asaga oo adiga kumatalaya. Markaa kadib waxaan kuu balaaminaynaa afceliye (turjubaan).

SOMALI

یہ دستاویز اہم ہے۔ اگر آپ اس دستاویز کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو براہ کرم انگریزی زبان سے واقف اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے کہنے کہ وہ آپ کی جانب سے آپ کے مقامی نمبر ہوڈ آفس یا ہاؤسنگ ٹیم سے رابطہ کریں۔ ہم پھر آپ سے ملاقات کرنے کیلئے ایک ترجمان زبان کا انتظام کریں گے۔

URDU

If you would like this leaflet in large print, Braille or audio CD please call your local housing team.